

Lesson 1: Al-A'araaf (Ayaat 1 - 25): Day 1

سُورَةُ الْأَعْرَافِ کی تفسیر

الْأَنْصَ ۝ كُتِبَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ							
الْأَنْصَ	كُتِبَ	أَنْزِلَ	إِلَيْكَ	فَلَا	يَكُنْ	فِي	صَدْرِكَ
المنص	کتب	انزل	ایک	فلا	یکن	فی	صدرک
اسے	کتب	اتاری گئی ہے	طرف تیری	پس نہ	ہو	بچ	پینے تیرے کے
الْأَنْصَ ۝ (اے محمد ﷺ) کتاب (جو) تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے (یہ نازل) اس لیے (ہوئی)							
لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ							
لِتُنذِرَ	بِهِ	وَ	ذِكْرَىٰ	لِلْمُؤْمِنِينَ	اتَّبِعُوا	مَا	أُنْزِلَ
لتنذر	بہ	و	ذکری	للمؤمنین	اتبعوا	ما	انزل
تاکہ تو ڈرائے	ساتھ اس کے	اور	نصیحت	واسطے ایمان والوں کے	پیروی کرو	اس چیز کی جو	اتاری گئی ہے
ہے) کہ تم اس کے ذریعے سے (لوگوں کو) ڈرناؤ اور (یہ) ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے ۝ (لوگو) جو (کتاب) تم پر تمہارے پروردگار کے							
رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ وَكَمْ							
رَبِّكُمْ	وَلَا	تَتَّبِعُوا	مِنْ دُونِهِ	أَوْلِيَاءَ	قَلِيلًا	مَا	تَذَكَّرُونَ
رب تمہارے	اور	مت	پیروی کرو	سوائے اس کے	دوستوں کی	تھوڑی سی نصیحت	جو
ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ (اور) تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو ۝ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ							
مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَبَاءَ بِسُنَابِيَا تُأْتِيهِمْ قَالُونَ ۝ فَمَا							
مِّنْ قَرْيَةٍ	أَهْلَكْنَاهَا	فَبَاءَ	بِسُنَابِيَا	تَأْتِيهِمْ	قَالُونَ	فَمَا	
بستیاں ہیں کہ	ہلاک کیا ہم نے ان کو	پس آیا ان کے پاس	عذاب ہمارا	رات کو سوتے	یا	وہ	دو پہر کو سوتے تھے
ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہمارا عذاب (یا تو رات کو) آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے یا (دن کو) جب وہ قیلولہ (یعنی دوپہر کو آرام) کرتے تھے ۝							
كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا							
كَانَ	دَعْوُهُمْ	إِذْ	جَاءَهُمْ	بِأُسْنَا	إِلَّا	أَنْ	قَالُوا
تھا	پکارنا ان کا	جب	آیا ان کے پاس	عذاب ہمارا	مگر	یہ کہ	کہنے لگے
تو جس وقت اُن پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ (ہائے) ہم (اپنے اوپر) ظلم							
ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ							
ظَالِمِينَ	فَلَنَسْأَلَنَّ	الَّذِينَ	أُرْسِلَ	إِلَيْهِمْ	وَلَنَسْأَلَنَّ		
ظالم	پس البتہ سوال کریں گے ہم	ان لوگوں سے کہ	بھیجا گیا ہے	طرف ان کی	اور	البتہ سوال کریں گے ہم	
کرتے رہے ۝ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم اُن سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے							

الْمُرْسَلِينَ ۝ فَلَنَقْصِرَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝						
الْمُرْسَلِينَ	فَلَنَقْصِرَنَّهُمْ	عَلَيْهِمْ	بِعِلْمٍ	وَمَا	كُنَّا	غَائِبِينَ
بھیجے گئے	پس البتہ بیان کریں گے ہم	اوپر ان کے	ساتھ علم کے	اور	نہ	تھے ہم
بھی پوچھیں گے ۝ پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے ۝						
وَالْوِزْنُ يُوَمِّدُ الْحَقَّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ						
وَالْوِزْنُ	يَوْمِئِذٍ	الْحَقُّ	فَمَنْ	ثَقُلَتْ	مَوَازِينُهُ	فَأُولَٰئِكَ هُمُ
اور	تو اُس دن	حق ہے	پس جو کوئی	بھاری ہوئی	تول اس کی	پس یہ لوگ وہ ہیں
اور اُس روز (اعمال کا) ثلثا برحق ہے۔ تو جن لوگوں کے (عملوں کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات						
الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا						
الْمُفْلِحُونَ	وَمَنْ	خَفَّتْ	مَوَازِينُهُ	فَأُولَٰئِكَ	الَّذِينَ	خَسِرُوا
فلاح پانے والے	اور	جھوٹی کہ	تول اس کی	پس یہ لوگ ہیں	جنہوں نے	خود کو ہار دیا
پانے والے ہیں ۝ اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں						
أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ						
أَنفُسَهُمْ	بِمَا	كَانُوا	بِآيَاتِنَا	يَظْلِمُونَ	وَلَقَدْ	مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ
جانوں اپنی کو	بسبب اسکے کہ	تھے	ساتھ ہماری نشانیوں کے	ظلم کرتے	اور	تحقیق
ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے ۝ اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانا بنایا						
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيشَ ۖ قَلِيلًا ۚ مَا تَشْكُرُونَ ۝ وَلَقَدْ						
وَجَعَلْنَا	لَكُمْ	فِيهَا	مَعَالِيشَ	قَلِيلًا	مَا تَشْكُرُونَ	وَلَقَدْ
اور	کیس ہم نے	واسطے تمہارے	معیشتیں	تھوڑا سا	تم شکر کرتے ہو	اور البتہ
اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے۔ (مگر) تم کم ہی شکر کرتے ہو ۝ اور ہم ہی						
خَلَقْنَاهُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاهُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ						
خَلَقْنَاهُمْ	ثُمَّ	صَوَّرْنَاهُمْ	ثُمَّ	قُلْنَا	لِلْمَلٰٓئِكَةِ	اسْجُدُوا لِآدَمَ
پیدا کیا ہم نے تم کو	پھر	صورتیں بنا کیں ہم نے تمہاری	پھر	کہا ہم نے	فرشتوں کو	سجدہ کرو
نے تم کو (ابتدا میں مٹی سے) پیدا کیا پھر تمہاری شکل صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔						

فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا

فَسَجِدُوا	إِلَّا	إِبْلِيسَ	لَمْ	يَكُنْ	مِّنَ	السَّاجِدِينَ	قَالَ	مَا
پس سجدہ کیا انہوں نے	مگر	ابلیس	نہیں	ہوا	سے	سجدہ کرنے والوں	کہا	کس چیز نے

تو (سب نے) سجدہ کیا لیکن ابلیس۔ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں (شامل) نہ ہوا ۝ (اللہ نے) فرمایا

مَنْعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي

مَنْعَكَ	إِلَّا	تَسْجُدَ	إِذْ	أَمَرْتُكَ	قَالَ	أَنَا	خَيْرٌ	مِنْهُ	خَلَقْتَنِي
منع کیا تجھ کو	کہ نہ	سجدہ کیا تو نے	جب	حکم دیا میں نے تجھ کو	کہا	میں	بہتر ہوں	اس سے	پیدا کیا تو نے مجھ کو

جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تو نے

مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ

مِنْ	نَّارٍ	وَ	خَلَقْتَهُ	مِنْ	طِينٍ	قَالَ	فَاهْبِطْ	مِنْهَا	فَمَا	يَكُونُ
سے	آگ	اور	پیدا کیا اس کو	مٹی سے	کہا	پس اتر جا	اس سے	پس نہیں	الائق ہے	

آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے ۝ فرمایا تو (بہشت سے) اتر جا تجھے شایاں نہیں

لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصُّغَرِينَ ۝ قَالَ

لَكَ	أَنْ	تَتَكَبَّرَ	فِيهَا	فَاخْرُجْ	إِنَّكَ	مِنَ	الصُّغَرِينَ	قَالَ
واسطے تیرے	یہ کہ	تکبر کرے تو	بچ اس کے	پس نکل جا	تو بیشک	سے ہے	ذیلیوں میں	کہا

کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہے ۝ اُس نے کہا کہ مجھے

أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ قَالَ

أَنْظِرْنِي	إِلَى	يَوْمِ	يُبْعَثُونَ	قَالَ	إِنَّكَ	مِنَ	الْمُنْظَرِينَ	قَالَ
ڈھیل دے مجھ کو	تک کہ	اس دن	قبروں سے اٹھائے جائیں	کہا	بے شک تو	سے ہے	ڈھیل دیے گیوں میں	کہا

اُس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے ۝ فرمایا (اچھا) تجھ کو مہلت دی جا لے ہے ۝ (پھر) شیطان نے کہا

فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ

فِيمَا	أَغْوَيْتَنِي	لَأَقْعُدَنَّ	لَهُمْ	صِرَاطَكَ	الْمُسْتَقِيمَ	ثُمَّ
پس قسم ہے اسکی کہ	گمراہ کیا تو نے مجھ کو	البتہ بیٹھوں گا میں	واسطے ان کے	راہ تیری	سیدھی پر	پھر

کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے۔ میں بھی تیرے سیدھے رستے پر اُن (کو گمراہ کرنے) کے لیے بیٹھوں گا ۝ پھر

لَا تَتَّبِعُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ							
لَا تَتَّبِعُهُمْ	مِّنْ	بَيْنِ أَيْدِيهِمْ	و	مِنْ	خَلْفِهِمْ	و	عَنْ أَيْمَانِهِمْ
البتہ آؤں گا پاس انکے	سے	آگے انکے	اور	سے	پیچھے ان کے	اور	دائیں ان کے
ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے) آؤں گا (اور ان کی راہ							
شَبَّاهِهِمْ ^ط وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ^{١٤} قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا							
شَبَّاهِهِمْ	و	لَا	تَجِدُ	أَكْثَرَهُمْ	شَاكِرِينَ	قَالَ	اخرُجْ مِنْهَا
بائیں ان کے	اور	نہیں	پائے گا تو	اکثر ان کو	شکر کرنے والا	کہا	اُکل اس سے
ماروں گا۔) اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا ^{١٥} (اللہ نے) فرمایا اُکل جائیہا							
مَذًى وَمَا مَدْحُورًا ^ط لَمَنْ يَتَّبِعْ مِنْهُمْ لَا مُلْكٌ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ							
مَذًى وَمَا	مَدْحُورًا	لَمَنْ	يَتَّبِعْ	مِنْهُمْ	لَا مُلْكٌ	لَهُمْ	مِنْ جَهَنَّمَ
برے حال سے	راندہ ہوا	البتہ جو کوئی	پیروی کریگا تیری	ان میں سے	البتہ بھردوں گا میں	دورخ کو	تم سے
سے پاجی، مردود۔ جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں (ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر) تم سب							
أَجْمَعِينَ ^{١٦} وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ							
أَجْمَعِينَ	وَيَا آدَمُ	اسْكُنْ	أَنْتَ	و	زَوْجُكَ	الْجَنَّةَ	فَكُلَا
سب	اور اے آدم	رہ	تو	اور	جوڑو تیری	بہشت میں	پس کھاؤ
سے جہنم کو بھردوں گا ^{١٧} اور (ہم نے) آدم (سے کہا کہ) تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں							
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ^{١٨}							
حَيْثُ	شِئْتُمَا	و	لَا	تَقْرَبَا	هَذِهِ	الشَّجَرَةَ	فَتَكُونَا
جہاں	چاہو تم	اور	مت	نزدیک جاؤ	اس	درخت کے	پس ہو جاؤ گے
سے چاہو (اور جو چاہو) نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے ^{١٩}							
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ							
فَوَسْوَسَ	لَهُمَا	الشَّيْطَانُ	لِيُبْدِيَ	لَهُمَا	مَا وُورِيَ	عَنْهُمَا	مِنْ
پس دھوسہ دیا	ان دونوں کو	شیطان نے	تاکہ ظاہر کر دے	واسطے دونوں کے	جو کچھ کہ چھپایا گیا تھا	ان سے	سے
تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ اُن کے ستر کی چیزیں جو اُن سے پوشیدہ تھیں							

سَوَاتِيهَآ وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ									
سَوَاتِيهَآ	وَقَالَ	مَا	نَهَكُمَا	رَبُّكُمَا	عَنْ	هَذِهِ	الشَّجَرَةِ	إِلَّا	أَنْ
شرمگاہوں ان کی	اور	کہا	نہ	منع کیا تمہارے	پروردگار تمہارے	اس	درخت	مگر	اس خطرہ سے کہ
کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے									
تَكُونُوا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝۲۰ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا									
تَكُونُوا	مَلَائِكَةً	أَوْ	تَكُونُوا	مِنَ	الْخَالِدِينَ	وَقَاسَمَهُمَا	إِنِّي	لَكُمَا	
ہو جاؤ تم دونوں	فرشتے	یا	ہو جاؤ	سے	بمیش رہنے والوں	اور قسم کھائی ان دونوں کے آگے کہ	بیشک میں	تم دونوں کا	
کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو ۝۲۱ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا									
لِئِنْ التَّائِبِينَ ۝۲۱ فَذَلَّلْنَاهَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ									
لِئِنْ	التَّائِبِينَ	فَذَلَّلْنَاهَا	بِغُرُورٍ	فَلَمَّا	ذَاقَا	الشَّجَرَةَ	بَدَتْ		
البتہ	خیر خواہوں سے ہوں	پس کھینچ لیا ان کو	ساتھ غرور کے	پس جب	چکھا ان دونوں نے	اس درخت سے	ظاہر ہو گئیں		
خیر خواہوں (۲۱) غرض (مرزود نے) دھوکا دے کر ان کو (معصیت کی طرف) کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت (کے پھل) کو کھالیا									
لَهُمَا سَوَاتِيهَآ وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط									
لَهُمَا	سَوَاتِيهَآ	وَ	طَفِقَا	يَخْصِفْنَ	عَلَيْهِمَا	مِنْ	وَّرَقِ	الْجَنَّةِ	
و اسے ان دونوں کی	شرمگاہیں انکی	اور	شرع کیا ان دونوں نے	ناکتے تھے	اد پر اپنے	سے	پتوں	بہشت کے	
توان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے (درختوں کے) پتے (توڑ توڑ کر) اپنے اوپر چپکانے (اور ستر چھپانے) لگے۔									
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ									
وَنَادَاهُمَا	رَبُّهُمَا	أَلَمْ	أَنْهَكُمَا	عَنْ	تِلْكَ	الشَّجَرَةِ	وَأَقُلُّ	لَكُمَا	إِنَّ
اور	پکارا ان کو	انکے رب نے	کیا نہیں	منع کیا تھا تم کو	اس	درخت	اور	کہا تم کو کہ	بیشک
تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت (کے پاس جانے) سے منع نہیں کیا تھا اور جتنا نہیں دیا تھا کہ									
الشَّيْطَانِ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۲۲ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَإِنْ									
الشَّيْطَانِ	لَكُمَا	عَدُوٌّ	مُبِينٌ	قَالَ	رَبَّنَا	ظَلَمْنَا	أَنْفُسَنَا	وَ	إِنْ
شیطان	واسطے تمہارے	دشمن ہے	ظاہر	کہا ان دونوں نے	اے رب ہمارے	ظلم کیا ہم نے	جانوں اپنی کو	اور	اگر
شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ ۝۲۳ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر									

لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوا							
لَمْ	تَغْفِرْ لَنَا	و	تَرْحَمْنَا	لَنَكُونَنَّ	مِنَ	الْخَسِرِينَ	قَالَ
نہ	بخشنے تو ہم کو	اور	مہرحم کرے گا تو ہم کو	البتہ ہو جائیں گے ہم	سے	ہارنا پانے والوں میں	کہا
تو ہمیں نہیں بخشنے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے ﴿٢٣﴾ (اللہ نے) فرمایا (تم سب بہشت سے) اتر جاؤ							
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ							
بَعْضُكُمْ	لِبَعْضٍ	عَدُوٌّ	و	لَكُمْ	فِي	الْأَرْضِ	مُسْتَقَرٌّ
بعض تمہارے	واسطے بعض کے	دشمن ہیں	اور	واسطے تمہارے	بچ	زمین کے	ٹھکانا ہے
(اب سے) تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت (خاص) تک زمین پر ٹھکانا اور (زندگی کا) سامان							
حِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٤﴾							
حِينَ	قَالَ	فِيهَا	تَحْيَوْنَ	و	فِيهَا	تَمُوتُونَ	و
ایک مدت	کہا	بچ اس کے	جیو گے تم	اور	بچ اس کے	مرو گے تم	اور
(کر دیا گیا) ہے ﴿٢٤﴾ (یعنی) کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے (قیامت کو زندہ کر کے) نکالے جاؤ گے ﴿٢٤﴾							